

## 93723 - ان معاصی کے سائے میں روزے کی حفاظت کیسے کی جائے ؟

### سوال

ان معاصی کے سائے میں اپنے روزے کی حفاظت کیسے کی جائے ؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

میرے بھائی آپ نے یہ سوال کر کے انتہائی اچھا کیا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کی حرص رکھتے ہیں اور اس وقت منتشر معاصی کے سبب اطاعت ضائع ہونے یا اس میں کمی ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔

ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ اس لیے مشروع کیا ہے کہ ہم تقویٰ و پرہیزگاری حاصل کر سکیں، اسی لیے حقیقی روزہ یہی ہے کہ جس روزے میں معاصی و ترک کرتے ہوئے اجتناب کیا گیا ہو، یہ روزہ تو دل کا بھی روزہ ہے نہ کہ صرف اعضاء کا روزہ۔

ہم نے جو کچھ کہا ہے اس پر سنت نبویہ بھی دلالت کرتی ہے اور اہل کی کلام میں بھی اس کی توضیح و بیان موجود ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" جس نے غلط اور بے ہودہ گوئی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکہ اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں "

صحیح بخاری حدیث نمبر ( 1804 ) .

اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں جن کا روزے میں صرف اتنا حصہ ہے کہ انہیں بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے، اور بہت سارے قیام کرنے والوں کو رات کی بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا "

مسند احمد حدیث نمبر ( 8693 ) ابن حبان ( 257 / 8 ) اسے صحیح کہا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح

الترغیب ( 1 / 262 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور پھر صحابہ کرام تو حرص رکھا کرتے تھے کہ روزہ ان کے نفس اور اعضاء کے لیے پاکیزگی کا باعث بنے، اور انہیں معاصی و گناہوں سے محفوظ رکھے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے:

" صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ جھوٹ و باطل اور لغو باتیں چھوڑنے کا نام روزہ ہے "

اور جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے:

" جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کا کان اور آنکھ اور زبان بھی جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھے، اور اپنے ملازم اور خادم کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اور آپ جس دن روزے سے ہوں تو آپ پر سکون اور وقار ہونا چاہیے، اور روزے والا دن اور عام دن کو برابر مت رکھو "

حفصہ بنت سیرین رحمہا اللہ ( تابعین میں عالمہ خاتون تھیں ) کا قول ہے:

روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس روزے دار اس میں سوراخ نہ کر دے، اور غیبت کرنا اس ڈھال میں سوراخ کرنا ہے "

میمون بن مہران کا قول ہے:

" سب سے آسان روزہ کھانا پینا ترک کرنا ہے۔

یہ آثار اور اقوال ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلی ( 4 / 308 ) میں ذکر کیے ہیں۔

جب ہمیں یہ علم ہو چکا ہے کہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اگر روزے کی حالت میں معصیت کی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اس میں کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ صحیح یہی ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن بلاشک و شبہ اس سے روزے میں نقص تو ضرور پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ روزے کی حقیقت کے بھی خلاف ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" غیبت روزے کے لیے نقصانده ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا گیا ہے، اور امام اوزاعی کا بھی یہی قول ہے کہ:

" غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے اس دن کی قضاء میں روزہ رکھنا واجب ہے "

لیکن ابن حزم رحمہ اللہ نے اس میں افراط سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ:

" چاہے قولی معصیت ہو یا فعلی عمدا اور یاد دہانی کے ساتھ معصیت کے ارتکاب سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے:

اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" چنانچہ نہ تو وہ رفت کرے اور نہ ہی جہالت سے کام لے "

اور اس لیے بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جس کسی نے بھی لغو اور جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا پھرے " انتہی

دیکھیں: فتح الباری ( 4 / 104 ).

اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے:

" جس سے روزہ رکھنا واجب ہے، ہو سکتا ہے جب میں یہ کہوں تو آپ لوگ تعجب کریں گے کہ جس سے روزہ رکھنا واجب ہے وہ معاصی و گناہ ہیں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاصی و گناہوں سے روزہ رکھے یعنی ان سے اجتناب کرے کیونکہ روزے میں سب سے پہلا مقصد ہی یہی ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو البقرة ( 183 ).

اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا: تا کہ تم بھوکے رہو! یا پھر پیاسے رہو! اور یہ بھی نہیں کہا: تا کہ تم اپنی بیوی سے دور رہو، نہیں بلکہ فرمایا:

تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو.

اس سے علم ہوا کہ روزے کا سب سے پہلا مقصد تو یہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید ان

الفاظ میں فرمائی:

" جو شخص بھی بے ہودہ گوئی اور لغو باتیں اور جہالت اور ان پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑے "

تو پھر انسان معاصی و گناہوں سے روزہ رکھے اصل اور حقیقی روزہ یہی ہے، روزہ توڑنے والی اشیاء سے باز رہنا تو ظاہری طور پر روزہ کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے طلوع فجر سے لیکر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی اشیاء سے اجتناب کرنا روزہ کہلاتا ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

تو اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ تمہارے لیے رات کے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگہ ظاہر ہو جائے، اور پھر رات تک روزہ مکمل کرو البقرة ( 187 ) .

اس روزے کو ہم ظاہری روزے کا نام دیتے ہیں جو کہ صرف بدن کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ رکھنا اولین مقصد ہے اور وہ اللہ کی معصیت و نافرمانی سے اجتناب کا روزہ ہے۔

اس بنا پر جس نے صرف ظاہری اور جسمانی روزہ تو رکھا لیکن دل کا روزہ نہ رکھا تو اس کا روزہ انتہائی ناقص ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا روزہ باطل ہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ: یہ روزہ ناقص ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد تو خشوع و خضوع اور اللہ کے لیے عاجزی و انکساری ہے، اور اعضاء کی نماز سے قبل دل کی نماز ہونی چاہیے۔

لیکن اگر کسی انسان نے اعضاء کے ساتھ تو نماز ادا کی لیکن دل کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا مثلاً یہ کہ اس کا دل کسی اور وادی میں ہو تو اس کی نماز انتہائی ناقص ہے، لیکن ظاہر کے حساب سے اس کی نماز ادا ہو جائیگی۔

اسی طرح جو شخص اللہ کی معصیت و نافرمانی سے روزہ نہیں رکھتا اس کا روزہ بھی انتہائی ناقص ہے؛ لیکن اس کا روزہ ادا ہو جائیگا؛ کیونکہ دنیا میں عبادات ظاہر پر ہونگی " انتہی

دیکھیں: لقاءات الباب المفتوح ( 116 ) صفحہ نمبر ( 1 ) .

دوم:

علماء کرام نے صبر کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے:

اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرنا۔

معصیت و نافرمانی کرنے سے صبر کرنا۔

اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا۔

اور روزے میں صبر کی یہ تینوں قسمیں جمع کر دی گئی ہیں۔

ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" صبر کی سب سے افضل قسم روزہ ہے؛ کیونکہ اس میں صبر کی تینوں قسمیں جمع کر دی گئی ہیں؛ اس لیے کہ یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ك اطاعت و فرمانبرداری پر صبر کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے صبر کرنا ہے کیونکہ بند اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی شہوت ترك کر دیا حالانکہ اس کا نفس اس کی طرف جانے کے لیے تنازع بھی کرتا ہے۔

اسی لیے صحیح حدیث میں اللہ عزوجل کا قول وارد ہے:

" روزے کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا؛ اس لیے کہ اس نے میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا ترك کیا ہے "

اور پھر اس روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی المناک اقدار پر صبر کرنا ہے، جو روزے کی حالت میں روزے دار کو بھوک اور پیاس کی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے " انتہی

دیکھیں: جامع العلوم و الحكم ( 219 )۔

اس لیے جس کسی نے بھی روزہ اللہ تعالیٰ کے مشروع کردہ طریقہ کے مطابق رکھا اسے عظیم الشان اجر و ثواب حاصل ہو گا، اس کے لیے اسے درج ذیل فرمان باری تعالیٰ ہی کافی ہے:

صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر و ثواب دیا جائیگا الزمر ( 10 )۔

سوم:

مسلمان شخص معاصی سے اپنے روزے کو نقصان سے بچا سکے اس کے لیے اسے معصیت کے ارتکاب سے اجتناب کرتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ: معصیت و نافرمانی کے ارتکاب سے صبر کرنا باقی دونوں صبر کی قسموں سے عظیم درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ شر و برائی کے اسباب جمع ہو کر اسے معصیت میں واقع ہونے کی طرف دھکیلتے ہیں۔

ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یہاں ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں لوگوں نے کلام کی ہے:

اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ صبر کی دونوں قسموں میں افضل کونسی ہے؟ آیا بندے کا معصیت و نافرمانی کے ارتکاب سے صبر کرنا، یا کہ اسکا اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے صبر کرنا؟

ایک گروہ نے پہلے کو راجح قرار دیا اور کہا ہے کہ:

معصیت و نافرمانی سے صبر کرنا اور معصیت کا ارتکاب نہ کرنا صدیقین کے وظائف میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے:

نیکی کے اعمال تو ہر نیک و فاجر شخص بھی کرتا ہے، لیکن معاصی و گناہ کو ترک کرنے کی طاقت تو صرف صدیق ہی رکھتا ہے۔

ان کا کہنا ہے: اس لیے کہ معصیت کے اسباب اور دواعی اطاعت ترک کرنے کے دواعی و اسباب سے زیادہ شدید ہیں؛ کیونکہ معصیت کے داعی ایک وجودی امر کی طرف دعوت دیتے ہیں جسے نفس بھی چاہتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن ترک اطاعت کا داعی تو کسل و سستی اور اہانت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ معصیت و نافرمانی کے داعی زیادہ قوی ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ: اس لیے کہ معصیت و نافرمانی پر داعی نفس اور ہوی و خواہش اور شیطان اور دنیاوی اسباب اور آدمی کے دوست اور مشابہت کی طلب اور نقالی کرنا، اور میلان طبع یہ سب جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک سبب بندے کو معصیت کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کے اثر کو طلب کرتا ہے، تو پھر جب یہ سب جمع ہو کر دل پر دھاوا بھول دیں تو کیا حالت ہو گی، اور پھر صبر کی کونسی قسم اسے قبول نہ کرنے میں طاقتور اور قوی ہو گی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نہ لے جائے تو پھر اس سے صبر ہو نہ سکے۔

جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ یہ قول قوی الحجج اور انتہائی ظاہر ہے " انتہی

دیکھیں: طریق الہجرتین ( 414 )۔

معصیت و نافرمانی کے ارتکاب سے صبر کرنا کئی ایک اسباب کی بنا پر ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کیا جائیگا کیونکہ اس کے اندر بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج بڑی باریک بینی سے کیا گیا ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" معصیت و نافرمانی کے ارتکاب سے صبر کا قاعدہ اور اصول کئی ایک اسباب سے پیدا ہوتا ہے:

اول:

بندے کو علم ہونا کہ یہ معصیت قبیح اور ذلیل چیز ہے اور گری ہوئی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حرام کرتے ہوئے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے منع فرمایا ہے، بالکل اسی طرح جیسے شفیق والد اپنی اولاد کو ضرر اور نقصانہ چیز سے بچاتا ہے، یہ ایسا سبب ہے جو عقل و دانش رکھنے والے شخص کو اس کے نزدیک جانے سے بھی روکتا ہے، چاہے اس پر عذاب و سزا کی وعید معلق نہ بھی کی جائے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔

دوسرا سبب:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم و حیاء، کیونکہ جب بندہ اپنی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام کو دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا اور سب کچھ سن رہا ہے تو بندے کو شرم آتی ہے، اسے شرم و حیاء محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنائے۔

تیسرا سبب:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں ان کا خیال کریں، اور اللہ نے جو احسان کیا ہے اس کو مدنظر رکھیں؛ کیونکہ گناہ نعمتوں کے خاتمہ کا باعث بنتے ہیں، اس لیے جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت زائل ہو جاتی ہے۔

اور اگر بندہ توبہ کر کے رجوع کر لیتا ہے تو وہ نعمت واپس آ جاتی ہے یا پھر اس جیسی اور نعمت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ پر مصر رہتا ہے تو وہ نعمت واپس نہیں آتی، اس طرح گناہ اس سے نعمتوں کو زائل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس سے ساری نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے .

اور پھر سب سے عظیم نعمت ایمان ہے، اور گناہ کا ارتکاب اور چور و زنا اور شراب نوشی اور ڈاکہ وغیرہ یہ سب ایمان کو زائل اور سلب کر لیتی ہیں، بعض سلف رحمہ اللہ کہتے ہیں:

میں نے ایک گناہ کیا تو ایک برس تک قیال اللیل سے محروم کر دیا گیا.

اور دوسرے سلف کا کہنا ہے:

میں ایک گناہ کر بیٹھا تو مجھے فہم قرآن سے محروم کر دیا گیا، اس جیسے امور میں ہی کہا گیا ہے:

اگر تم نعمت میں ہو تو اس نعمت کا خیال کرو...

کیونکہ معاصی و گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں.

مختصر یہ کہ معاصی و گناہ ایک ایسی آگ ہے جو نعمتوں کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی جرح جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھے، اور اسے سزا میں تبدیل کرنے سے بچائے.

چوتھا سبب:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اس کے عذاب سے ڈر، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے اور عید کی تصدیق کی جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے.

یہ ایک ایسا سبب ہے جو علم و یقین سے قوی ہوتا ہے اور اس میں کمزوری سے کمزور ہو جائیگا.

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

نہیں سوائے اس بات کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے تو اس کے بندے علماء ہی ہیں .

بعض سلف رحمہ اللہ کا قول ہے:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت کے لیے علم کافی ہے، اور اللہ سے جہالت کے دھوکے میں نہ رہا جائے.

پانچواں سبب:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت: یہ اللہ کی مخالفت و نافرمانی سے صبر کرنے میں قوی سبب ہے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جب بھی دل میں محبت قوی ہوگی تو اس کا تقاضا ہے کہ اطاعت کی جائے اور ترک مخالفت قوی ہے.

جب دل میں اللہ کی محبت کمزور ہو جائے تو پھر معصیت و نافرمانی ہوتی ہے، جو شخص معصیت کو اپنے سردار کی سزا اور اس کے کوڑے کے ڈر پر معمول کرتا ہے اور جو اسے اپنے سردار کی محبت پر معمول کرتا ہے ان دونوں میں فرق ہے...

چھٹا سبب:

نفس کا شرف اور اس کی طہارت و پاکیزگی اور اس کی فضیلت و حمیت یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں جو اسے اور اس کی قدر میں کمی کریں، اور اس کی قدر و منزلت میں کمی کریں اور اسے حقیر قرار دیں اور اس اور بے وقوفوں کو برار قرار دیں.

ساتواں سبب:

معصیت و گناہ کے برے انجام اور اس کے قبیح اثر کا قوی علم، اور اس کی بنا پر پیدا ہونے والا ضرر: چاہے وہ سیاہ چہرے کی شکل میں ہو یا پھر دل کی سیاہی کی شکل میں اور دل کی تنگی اور غم و حزن اور تکلیف کی شکل میں، اور شدت قلق و پریشانی کی شکل میں، اور اپنے دشمن کے مقابلہ میں کمزوری، اور اس کی زینت سے عاریت، اور اپنے معاملہ میں حیرانی و پریشانی، اور اپنے دوست کی نصرت و مدد نہ کرنا، اور واضح دشمن کی مدد نصرت کرنا، اس کے لیے مستعد علم کا چھپ جانا، اور اس کے لیے جو حاصل ہونا تھا اسے بھول جانا یا کمزور ہونا، اور اس کی وہ مرض جب وہ مستحکم ہو جائے تو موت یہ ضروری ہے کیونکہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں....

اجمالی طور پر یہ کہ: قبیح معصیت و نافرمانی کے آثار بے شمار ہیں، اور اطاعت و نیکی کے آثار بھی بہت سے جنہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اسے احاطہ علم میں نہیں لایا جا سکتا.

دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور دینا و آخرت کی برائی اور شر اللہ کی معصیت و نافرمانی میں ہے.

ایک اثر میں مروی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے:

کون ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری اطاعت سے بدبخت ہوا، اور کون ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میری نافرمانی سے سعادت مند بنا "

آٹھواں سبب:

امید کم کرنا، اور اس کی سرعت انتقال کا علم رکھنا کہ وہ ایک ایسے مسافر کی طرح ہے جو ایک ایسی بستی میں داخل ہوا جہاں سے وہ جلد نکلنے والا ہے، یا پھر ایسے سوار کی طرح جس نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے کچھ آرام

کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔

اس لیے وہ اپنے علم کے مطابق کہ اس کا پہاں ٹھہرنا بہت ہی قلیل عرصہ کے لیے ہے اور بہت جلد پہاں سے منتقل ہو جائیگا وہ اس پر حریص ہے کہ اپنا بوجھ زیادہ نہ کرے اور جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں اسے چھوڑ دے۔

اس پر حریص ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خیر کی طرف منتقل ہو، اس لیے کم امید کرنے سے زیادہ بندے کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، اور لمبی امید اور کر لوں گا کر لوں گا سے زیادہ اس کے لیے کوئی نقصانہ چیز نہیں ہے۔

نواں سبب:

کھانے پینے اور لباس اور سونے اور لوگوں کے ساتھ اجتماع میں فضول اور زیادہ سے اجتناب کرنا، کیونکہ ان سب زیادہ اشیاء سے معاصی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مصرف کے طلبگار ہوتے ہیں تو اس کے لیے مباح میں تنگی ہوتی ہے اس لیے وہ بڑھ کر حرام کی طرف جا نکلتا ہے۔

بندے کے لیے سب سے نقصانہ چیز اس کا فارغ رہنا ہے اس لیے نفس کو فارغ مت رکھیں، بلکہ اگر وہ اسے فائدہ مند اشیاء میں مشغول نہیں رکھے گا تو پھر وہ ضرور نقصانہ اشیاء میں مشغول ہو جائیگا۔

دسواں سبب:

یہ سبب مندرجہ بالا سب اسباب کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے: دل میں ایمان کی ڈالی کو مضبوط کر کے پیدا کرنا اس لیے معاصی سے بندے کا صبر کرنا یہ اس کی قوت ایمان کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے جتنا اس کا ایمان قوی ہوگا اسی قدر اس کا صبر بھی پورا ہوگا۔

اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو صبر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے جس کا دل اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اسے دیکھنے کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اللہ کی حرام کردہ کو حرام کرتے ہوئے اور اللہ کے بغض و ناراضگی اور سزا کو مدنظر رکھتے ہوئے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔

اور جو اپنے ایمان کو اجر و ثواب اور عقات و سزا اور جنت و جہنم کو مدنظر رکھتے ہوئے مضبوط کرتا ہے وہ ہر اس عمل سے باز آ جائیگا جو اس علم کا موجب ہے۔

اور جس کا یہ گما ہے کہ ایمان راسخ کے بغیر وہ مخالقات کو ترک کرنے پر طاقت رکھتا ہے تو اس کی یہ سوچ غلط ہے کیونکہ جب دل میں ایمان کا چراغ قوی ہو اور اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہو اور وہ ہر طرف کو روشن کر دے تو یہ نور اور روشنی اس کے اعضاء میں سرایت کر جاتی ہے، اور اس طرح ایمان کے سبب کو وہ جلد قبول کر لیتا

ہے، اور وہ مطیع و فرمانبردار بن بغیر کسی بوجھ کے اور ہنسی و خوشی اطاعت کرنے لگتا ہے۔

بلکہ وہ اس کی دعوت سے خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنے محبوب اور احسان کرنے والے کی دعوت سے خوش ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے عزت کا باعث ہوتی ہے، وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتا ہے، اور اس کو دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے " انتہی

دیکھیں: طریق الہجرتین ( 408 - 414 ) مختصراً.

مسلمان شخص سے مطلوب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے سے کیا مراد لی ہے، اور اسے معصیت کے فعل کے دواعی اور اسباب کو پہچاننا چاہیے تا کہ وہ اس سے دور رہ سکے، اور اسے ناپسند کرے۔

ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کلام ہم اوپر نقل کر چکے ہیں وہ اسے بڑی اچھی طرح بیان کرتی ہے۔

مزید آپ سوال نمبر ( 12468 ) کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔

واللہ اعلم .